

یکساں مواقع ہی قانون ہے

وفاقی مالی امداد کے اس وصول کنندہ کے لیے یہ بات خلاف قانون ہے کہ وہ درج ذیل بنیادوں پر امتیاز کرے: ریاست ہائے متحدہ میں رہنے والے کسی بھی فرد کے خلاف نسل، رنگ، مذہب، صنف (حمل، ولادت، اور متعلقہ طبی حالات، صنف سے متعلق دقیانوسی تصورات کے مطابق برتاؤ، مخنث ہونے کی حالت، اور صنفی شناخت سمیت)، قومی اصل (انگریزی کی محدود مہارت سمیت)، عمر، معذوری، یا سیاسی وابستگی یا اعتقاد، یا "افراد قوت ایجاد اور مواقع ایکٹ" کے ٹائٹل کے تحت مالی امداد فراہم کردہ پروگراموں کے کسی بھی مستفید، ان کے لیے درخواست دینے والے، یا ان میں شرکت کرنے والے کے خلاف، فرد کی شہریت کی حیثیت یا کسی بھی ایسے پروگرام یا سرگرمی میں شرکت کی بنیاد پر جسے WIOA ٹائٹل کے تحت مالی امداد فراہم کی جا رہی ہو۔

وصول کنندہ درج ذیل میں سے کسی بھی شعبے میں امتیازی سلوک پر گز نہ کرے: یہ فیصلہ کرنا کہ کسی WIOA ٹائٹل کے تحت مالی امداد فراہم کردہ پروگرام یا سرگرمی میں کسی داخل کیا جائے گا، یا کسی اس تک رسائی حاصل ہو گی؛ اس طرح کے پروگرام یا سرگرمی میں مواقع فراہم کرنا، یا اس تعلق سے کسی شخص کے ساتھ سلوک کرنا؛ یا اس طرح کے پروگرام یا سرگرمی کے انتظام کے حوالہ سے، یا اس کے تعلق سے ملازمت کے فیصلے کرنا۔

وفاقی مالی امداد کے وصول کنندگان کے لیے یہ یقینی بنانے کی خاطر معقول اقدامات کرنا لازمی ہے کہ معذوریوں کے حامل افراد کے ساتھ مواصلات دوسروں کے ساتھ ہونے والی مواصلات جتنی ہی موثر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، درخواست کیے جانے پر اور فرد پر کسی لاگت کے بغیر، وصول کنندگان معذوریوں کے حامل اہل افراد کو لازمی طور پر مناسب معاون آلات اور خدمات فراہم کریں۔

اگر آپ کے خیال میں آپ کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کیا کریں

اگر آپ کو لگتا ہے کہ WIOA ٹائٹل کے تحت مالی امداد فراہم کردہ پروگرام یا سرگرمی کے تحت آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے، تو مبینہ خلاف ورزی کی تاریخ سے 180 دنوں کے اندر درج ذیل کسی ایک کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں:

مقامی سطح	ریاستی سطح	وفاقی سطح
EO افسر کا نام: عہدہ: WDB کا نام: WDB کا پتہ: فون: فیکس: TTY/TDD-WI ریلے خدمات: ای میل:	سوزانا وازکوز گارسیا (Susana Vázquez García) مساوی مواقع افسر وسکونسن افرادی قوت کی ترقی کا محکمہ ملازمت اور تربیت کا ڈویژن 201 E Washington Ave, Room E 100 PO Box 7972 Madison, WI 53707-7972 (608) 405-4067 WI ریلے کے ذریعہ سے TTY تک رسائی: 711 ای میل: DETEOContact@dwd.wisconsin.gov	ڈائریکٹر، مرکز برائے شہری حقوق (CRC) امریکی محکمہ محنت و مشقت 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, واشنگٹن، ڈی سی 20210 یا CRC ویب سائٹ www.dol.gov/crc پر دی گئی ہدایات کے مطابق برقی طور پر۔

اگر آپ وصول کنندہ کے یہاں اپنی شکایت درج کراتے ہیں، تو مرکز برائے شہری حقوق (پتہ اوپر دیکھیں) کے پاس شکایت درج کرانے سے پہلے، لازمی ہے کہ آپ وصول کنندہ کے ایک تحریری "نوٹس آف فائل ایکشن" جاری کرنے، یا 90 دن گزر جانے کا انتظار کریں۔

اگر وصول کنندہ آپ کے ذریعہ شکایت درج کرانے کے دن کے 90 دنوں کے اندر آپ کو ایک تحریری "نوٹس آف فائل ایکشن" نہیں دیتا ہے، تو آپ اس نوٹس کو موصول کرنے سے پہلے CRC کے پاس شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ تاہم، لازمی ہے کہ آپ اپنی CRC شکایت 90 دن والی ڈیڈ لائن کے 30 دنوں کے اندر درج کرا دیں (دوسرے الفاظ میں، وصول کنندہ کے پاس اپنی شکایت درج کرانے کے 120 دنوں کے اندر)۔ اگر وصول کنندہ آپ کی شکایت پر آپ کو ایک تحریری "نوٹس آف ایکشن" دے دیتا ہے، مگر آپ فیصلے یا تصفیہ سے غیر مطمئن ہیں، تو آپ CRC کے پاس ایک شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ لازمی ہے کہ آپ اپنی CRC شکایت اس تاریخ کے 30 دنوں کے اندر درج کرائیں جب آپ کو "نوٹس آف فائل ایکشن" موصول ہوئی تھی۔

DWD ایک مساوی مواقع والا آجر اور خدمت فراہم کنندہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی معذوری لاحق ہے اور آپ کو اس معلومات کے سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی 1-800-7-1 ڈائل کر کے وسکونسن ریلے سروس سے رابطہ کریں۔ برائے مہربانی ملازمت اور تربیت کے ڈویژن سے 888-258-9966 پر رابطہ کریں اور ایک متبادل شکل میں، آپ کی پسندیدہ زبان میں ترجمہ سمیت، مفت معلومات کی درخواست کرنے کے لیے 6 دہائییں۔